

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



مركز المعلومات وخدمات المكتبات

دخا، مسقط، عمان

التاريخ: 17/90

مركز المعلومات وخدمات المكتبات 1990 وسنة التأسيس

تقرير التأسيس

30 ديسمبر 1411، 21 أغسطس 1990 في السنة التأسيسية

رقم التقرير 9.00 في السنة التأسيسية

في السنة التأسيسية تم إعداد التقرير السنوي في السنة التأسيسية، وفي السنة التأسيسية تم إعداد التقرير السنوي في السنة التأسيسية.

في السنة التأسيسية تم إعداد التقرير السنوي في السنة التأسيسية، وفي السنة التأسيسية تم إعداد التقرير السنوي في السنة التأسيسية.

في السنة التأسيسية تم إعداد التقرير السنوي في السنة التأسيسية، وفي السنة التأسيسية تم إعداد التقرير السنوي في السنة التأسيسية.

”تقرير التأسيس“

مركز المعلومات وخدمات المكتبات في السنة التأسيسية

رقم التقرير 9.00 في السنة التأسيسية

10 في سنة 1990 تم إعداد التقرير السنوي في السنة التأسيسية

في السنة التأسيسية تم إعداد التقرير السنوي في السنة التأسيسية، وفي السنة التأسيسية تم إعداد التقرير السنوي في السنة التأسيسية.

مەزھۇبىيەتنى دۇنياۋىي ۋە ئىسلامىي دىنلارنىڭ ئىككىسىنى بىرلىكتە قوبۇل قىلىشقا بولىدۇ، ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق، ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق، ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق.

بۇ ئىشنىڭ ئىسپاتى ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق.

1411 ھىجرىيە 11 ئايدا
2 ئايدا 1990

بۇ ئىشنىڭ
(ئىسمى)

بۇ ئىشنىڭ ئىسمى



بۇ ئىشنىڭ ئىسمى ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق.

بۇ ئىشنىڭ ئىسمى ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق. 525/ - ئىشنىڭ ئىسمى ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق.

بۇ ئىشنىڭ ئىسمى ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق.

بۇ ئىشنىڭ ئىسمى ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق.

بۇ ئىشنىڭ ئىسمى ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق.

بۇ ئىشنىڭ ئىسمى ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق. ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق.

بۇ ئىشنىڭ ئىسمى ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق.

بۇ ئىشنىڭ ئىسمى ئىسلامىي دىن بىلەن مەزھۇبىيەتنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق ئىككىچىلىك يوق.

وَأَمَّا فِي مَقَامِ رَبِّهِ فَهَدَىٰ ۚ وَأَلْهَمْنَا الْوِسْطَ الْغَمْدَ ۚ وَنُفِثْنَا بِكَ الْوَيْسُ الثَّمِيصَ ذُو الْقُرْبَىٰ ۚ وَوَضَعْنَاكَ فِي أَسْنَنِ الْكَافِرِ ۚ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا دَعَا ابْنُ مَرْثَدَةَ ۚ إِنَّ ابْنَ مَرْثَدَةَ لَفِي ضَلَالٍ عَظِيمٍ ۚ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا دَعَا ابْنُ مَرْثَدَةَ ۚ إِنَّ ابْنَ مَرْثَدَةَ لَفِي ضَلَالٍ عَظِيمٍ ۚ وَنُفِثْنَا بِكَ الْوَيْسُ الثَّمِيصَ ذُو الْقُرْبَىٰ ۚ وَوَضَعْنَاكَ فِي أَسْنَنِ الْكَافِرِ ۚ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

وَأَمَّا فِي مَقَامِ رَبِّهِ فَهَدَىٰ ۚ وَأَلْهَمْنَا الْوِسْطَ الْغَمْدَ ۚ وَنُفِثْنَا بِكَ الْوَيْسُ الثَّمِيصَ ذُو الْقُرْبَىٰ ۚ وَوَضَعْنَاكَ فِي أَسْنَنِ الْكَافِرِ ۚ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

وَأَمَّا فِي مَقَامِ رَبِّهِ فَهَدَىٰ ۚ وَأَلْهَمْنَا الْوِسْطَ الْغَمْدَ ۚ وَنُفِثْنَا بِكَ الْوَيْسُ الثَّمِيصَ ذُو الْقُرْبَىٰ ۚ وَوَضَعْنَاكَ فِي أَسْنَنِ الْكَافِرِ ۚ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا دَعَا ابْنُ مَرْثَدَةَ ۚ إِنَّ ابْنَ مَرْثَدَةَ لَفِي ضَلَالٍ عَظِيمٍ ۚ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا دَعَا ابْنُ مَرْثَدَةَ ۚ إِنَّ ابْنَ مَرْثَدَةَ لَفِي ضَلَالٍ عَظِيمٍ ۚ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا دَعَا ابْنُ مَرْثَدَةَ ۚ إِنَّ ابْنَ مَرْثَدَةَ لَفِي ضَلَالٍ عَظِيمٍ ۚ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا دَعَا ابْنُ مَرْثَدَةَ ۚ إِنَّ ابْنَ مَرْثَدَةَ لَفِي ضَلَالٍ عَظِيمٍ ۚ

دانشگاه تهران

کتابخانه و اسناد

- ۱. (ا) این کتابخانه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در تهران تأسیس گردید و در ابتدا در محله کهنه بازار واقع بود. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی به مکان کنونی خود منتقل گردید.
- (ب) این کتابخانه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در تهران تأسیس گردید و در ابتدا در محله کهنه بازار واقع بود. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی به مکان کنونی خود منتقل گردید.
- (ج) این کتابخانه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در تهران تأسیس گردید و در ابتدا در محله کهنه بازار واقع بود. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی به مکان کنونی خود منتقل گردید.

کتابخانه

دانشگاه تهران

- ۲. (ا) این کتابخانه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در تهران تأسیس گردید و در ابتدا در محله کهنه بازار واقع بود. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی به مکان کنونی خود منتقل گردید.
- (ب) این کتابخانه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در تهران تأسیس گردید و در ابتدا در محله کهنه بازار واقع بود. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی به مکان کنونی خود منتقل گردید.
- (ج) این کتابخانه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در تهران تأسیس گردید و در ابتدا در محله کهنه بازار واقع بود. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی به مکان کنونی خود منتقل گردید.

The Library and Archives of People's Majlis

- ۳. (ا) این کتابخانه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در تهران تأسیس گردید و در ابتدا در محله کهنه بازار واقع بود. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی به مکان کنونی خود منتقل گردید.
- (ب) این کتابخانه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در تهران تأسیس گردید و در ابتدا در محله کهنه بازار واقع بود. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی به مکان کنونی خود منتقل گردید.
- (ج) این کتابخانه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در تهران تأسیس گردید و در ابتدا در محله کهنه بازار واقع بود. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی به مکان کنونی خود منتقل گردید.
- (د) این کتابخانه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در تهران تأسیس گردید و در ابتدا در محله کهنه بازار واقع بود. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی به مکان کنونی خود منتقل گردید.
- (ه) این کتابخانه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در تهران تأسیس گردید و در ابتدا در محله کهنه بازار واقع بود. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی به مکان کنونی خود منتقل گردید.

(ب) تشریح فرمائیں کہ درج ذیل صورتوں میں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی۔
1. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔
2. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔

(ا) ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔
2. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔

4. دو شخصوں نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں ان کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔
1. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔
2. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔

5. دو شخصوں نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں ان کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔
1. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔
2. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔

6. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔
1. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔
2. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔

7. دو شخصوں نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں ان کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔
1. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔
2. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔

II
کوتی نامہ

8. کوئی شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔
1. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔
2. ایک شخص نے ایک دوسرے کو ایک خط لکھا جس میں اس کے بارے میں کئی گھبرائے ہوئے بیانات دیے گئے ہیں۔

9. گوئی که در این کتاب، «تفسیر» و «تفسیر» در هر دو معنی است، «تفسیر» در معنی «تفسیر» و «تفسیر» در معنی «تفسیر».

گوئی که در این کتاب، «تفسیر» و «تفسیر» در هر دو معنی است، «تفسیر» در معنی «تفسیر» و «تفسیر» در معنی «تفسیر».

III

تفسیر

10. از آنجا که در این کتاب، «تفسیر» و «تفسیر» در هر دو معنی است، «تفسیر» در معنی «تفسیر» و «تفسیر» در معنی «تفسیر».

11. زیرا هر دو «تفسیر» و «تفسیر» در هر دو معنی است، «تفسیر» در معنی «تفسیر» و «تفسیر» در معنی «تفسیر».

IV

تفسیر

12. از آنجا که در این کتاب، «تفسیر» و «تفسیر» در هر دو معنی است، «تفسیر» در معنی «تفسیر» و «تفسیر» در معنی «تفسیر».

13. «تفسیر» و «تفسیر» در هر دو معنی است، «تفسیر» در معنی «تفسیر» و «تفسیر» در معنی «تفسیر».

V

تفسیر

14. از آنجا که در این کتاب، «تفسیر» و «تفسیر» در هر دو معنی است، «تفسیر» در معنی «تفسیر» و «تفسیر» در معنی «تفسیر».

